



سوال

(764) دینی مسائل سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مردوں اور عورتوں کے اختلاط کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مردوں اور عورتوں کے اختلاط کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ وہ اختلاط جو آپس میں دینی مسائل میں مفاہمت اور مناظرے کی صورت میں ہوتا ہے۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیح السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

مردوں اور عورتوں کا اختلاط خطرناک امور میں سے ہے اس سلسلے میں جناب شیخ محمد ابراہیم کا فتویٰ صادر ہوا ہے جس کو ہو نقل کیا جاتا ہے

"مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی تین حالتیں ہیں۔

1۔ پہلی حالت: کہ عورتوں کا پلپٹے محرم رشتہ دار مردوں سے اختلاط اس کے جائز ہونے میں کوئی اشکال نہیں۔

2۔ دوسری حالت: کہ فساد کی غرض سے عورتوں کا اجنبی مردوں سے اختلاط اس کے حرام ہونے میں کوئی شک نہیں۔

3۔ تیسری حالت: کہ تعلیم گاہوں، دکانوں، دفاتروں، پارٹیوں اور دیگر جگہوں میں عورتوں کا اختلاط ممکن ہے کہ سائل اس حالت میں بادی النظر میں یہ سمجھا ہو کہ یہ مردوں اور عورتوں میں فتنے کا باعث نہیں ہے اس لیے اس حالت کی حقیقت کو کھولنے کے لیے ہم اجمالی اور تفصیلی دونوں طرح سے جواب دیتے ہیں۔

اجمالی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جبلی طور پر عورتوں کی طرف میلان رکھنے والے اور طاقت ور پیدا کیا ہے اور عورتوں کو جبلی طور پر کمزوری اور مردوں کی طرف میلان پر پیدا کیا ہے چنانچہ جب اختلاط ہوگا تو ایسے اثرات ضرور ہوں گے جو برے مقاصد کے حصول کے لیے ہوں گے اس لیے کہ نفیس برائی پر آمادہ کرتا ہے اور خواہش انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے اور شیطان فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔

تفصیلی جواب یہ ہے کہ شریعت کی بنیاد کچھ مقاصد اور ان کے وسائل پر ہے اور وسائل جو مقصد تک لے جانے والے ہیں وہ بھی مقصد کے حکم میں ہیں چونکہ عورتیں مردوں کی جنسی خواہشات پورا کرنے کی جگہیں ہیں اس لیے شارع نے دونوں قسموں کے تعلق تک پہنچانے والے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔

اس کی مزید حقیقت تمہارے سامنے واضح ہوگی اس سے جو ہم کتاب و سنت سے دلائل پیش کریں گے۔

1۔ قرآن سے دلائل

پہلی دلیل: اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَرُوْدُهُ اَلَّتِيْ هُوَ فِيْ يَتِيْمًا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْاَبْلُوْبُ وَقَالَتْ بَيْتٌ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَثْوًى اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظّٰلِمُوْنَ ۚ ۲۳ ... سورة يوسف

"اور اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلا دیا اور دروازے اچھی طرح بند کر لیے اور کہنے لگی جلدی آ، اس نے کہا: اللہ کی پناہ بے شک وہ میرا مالک ہے اس نے میرا ٹھکانا لہجھا بنایا بلاشبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔"

وجہ دلالت: جب عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کے درمیان اختلاط ہوا تو جو اس عورت کے دل میں چھپا ہوا تھا وہ ظاہر ہو گیا تو اس نے یوسف علیہ السلام سے گناہ کا مطالبہ کیا لیکن اللہ کی مہربانی ہوئی تو وہ اس سے بچ گیا جیسا کہ اس فرمان میں ہے۔

فَاَسْتَجَابَ لِرَبِّهِ فَوَصَّوْهُ عَنْ كَيْدِهِنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۚ ۳۴ ... سورة يوسف

"تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی پس اس سے ان (عورتوں) کا فریب ہٹا دیا بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔"

ایسے ہی جب مردوں کا عورتوں سے اختلاط ہو گا تو دونوں میں سے ہر ایک چاہے گا۔ کہ وہ اسے ہوائے نفس کی طرف مائل کرے اور پھر وہ اس کے بعد حصول مقصد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گا۔

دوسری دلیل: اللہ نے مردوں اور عورتوں کو نظریں پست کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغْضُوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا اَفْوَاجَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَّكُمْ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْدٌ مَّا يَصْنَعُوْنَ ۚ ۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ ۚ ۳۱ ... سورة النور

"مومن مردوں سے کہہ دے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں اور مومن عورتوں سے کہہ دے اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں۔"

وجہ دلالت: دونوں آیتوں میں ایماندار مردوں اور عورتوں کو نظر پست رکھنے کا پابند کیا گیا ہے اور اللہ کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے پھر اللہ نے واضح کیا ہے کہ یہ زیادہ پاکیزہ ہے البتہ شارع نے اچانک پڑ جانے والی نظر سے درگزر کیا ہے۔

امام حاکم نے مستدرک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا:

"يَا عَلِيُّ لَا تُنْظِرَ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ كَلِمَةَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ كَلِمَةَ الْآخِرَةِ" [1]

"اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ! نظر کے پیچھے نظر کو نہ لگا پہلی تیرے لیے جائز ہوگی اور دوسری جائز نہیں ہوگی۔"

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اسے بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر صحیح ہے جبکہ بخاری و مسلم نے اسے بیان نہیں کیا امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی "تخصیص" میں اس قول کی موافقت کی ہے اس معنی و مضموم کی کئی روایات آئی ہیں۔

اللہ نے نظر پست رکھنے کا پابند کیا ہے کیونکہ ایسی عورت کو دیکھنا جسے دیکھنا حرام ہے آنکھوں کا زنا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الرِّبَا نَدْرُكُ ذَلِكَ لَا حِمْلَةَ فَالْيَتَانِ زَنَا بِنَا النَّظَرُ وَالْأُذُنَانِ زَنَا بِنَا الْإِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زَنَا بِالْكَلَامِ وَالْيَدُ زَنَا بِالْبَطْشِ وَالرِّجْلُ زَنَا بِالْخُطَا وَالْقَلْبُ يَتَوَمَّى وَيَصْدُقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيَكْذِبُهُ" [2]

"دونوں آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور کانوں کا زنا (گندی فحش باتیں) سننا ہے زبان کا زنا (فحش) گفتگو ہے ہاتھ کا زنا (ناجائز چیز کا) پکڑنا ہے اور پاؤں کا زنا (بے حیائی کے اڈوں کی طرف) چلنا ہے۔"

دیکھنا زنا اس لیے ہے کہ دیکھنے والا عورت کے محاسن سے لطف اٹھاتا ہے اور یہی دیکھنے والے کے دل میں عورت کے گھر کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ اس کے دل سے گرجاتی ہے لہذا وہ اس سے برائی کے ارتکاب کی طرف کوشش کرتا ہے جبکہ شارع نے اس کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ خرابی تک لے جانے والا ہے اور یہی خرابی اختلاط سے حاصل ہوتی ہے تو اسی طرح اختلاط سے بھی منع کر دیا کیونکہ وہ بھی نظر کی لذت بلکہ اس سے زیادہ بری چیز اور ناپسندیدہ انجام کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔

تیسری دلیل: گزشتہ دلائل گزر چکے ہیں جو اس بارے میں ہیں کہ عورت پردہ ہے اور اسے اپنا تمام جسم چھپانا ضروری ہوگا کیونکہ عورت کے بدن سے کسی چیز کا ننگا ہونا اس کی طرف دیکھنے کی دعوت دے گا اور دیکھنا دل سے وابستگی کا ذریعہ ہوگا پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں اور اختلاط کا بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے۔

چوتھی دلیل: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ... ۳۱ ... سورة النور

"اور اپنے پاؤں (زمین پر) نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔"

وجہ دلالت: اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پاؤں زمین پر زور زور سے مارنے سے منع کیا ہے اگرچہ یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ (پاؤں مارنا) مردوں کے لیے پازیبوں کی آواز سننے اور اس کی طرف متوجہ ہونے اور پھر مردوں کے دلوں میں ان عورتوں کی طرف شہوت بھڑکانے کا ذریعہ نہ بنے ایسے ہی اختلاط سے بھی روک دیا جائے گا کیونکہ وہ بھی خرابی تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔

پانچویں دلیل: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

لِيَعْلَمَ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹ ... سورة المؤمن

"وہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔"

عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے اس کی تفسیر یوں بیان کیا ہے کہ آدمی کسی کے گھر جاتا ہے ان کے ہاں رات گزارتا ہے اب میں ایک خوبصورت عورت ہے وہ اس کے پاس سے گزرتی ہے تو جب وہ غافل ہوتے ہیں تو وہ اس کو کن انکھیوں سے دیکھتا ہے تو جب وہ متوجہ ہوتے ہیں تو اپنی نظر کو پست کر لیتا تو جب وہ غافل ہوتے ہیں تو ملاحظہ کرنے لگ جاتا ہے جب وہ متوجہ ہوتے ہیں نظر کو پست کر لیتا ہے۔

اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل کی کیا حالت ہے کہ وہ چاہتا ہے کاش! وہ اس کی شر مگاہ کو دیکھ لے! کاش! اس کے بس میں ہو تو وہ اس سے زنا بھی کر گزرے؟



وجہ دلالت : اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کی طرف چوری چوری دیکھنے کو جس کا دیکھنا حلال نہیں ہے۔ آنکھوں کی نیانیت بتائی تو بھلا اختلاط کا کیا حکم اور معاملہ ہوگا؟
پچھٹی دلیل : اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو لپٹنے گھروں میں بیٹنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وَلَا تَبْرِجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ... ۳۳ ... سورة الاحزاب

"اور لپٹنے گھروں میں نکلی رہو اور پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو۔"

وجہ دلالت : اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو لپٹنے گھروں میں ہی بیٹنے کا حکم دیا جو کہ انتہائی زیادہ پاکیزہ اور پاکدامن تھیں اور یہ خطاب عام ہوگا اگر کوئی دلیل اس کو خاص کرنے پر راہنمائی نہ کرتی ہو جبکہ یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں جو خصوصیت پر دلالت کرتی ہو تو جب وہ گھروں میں ہی بیٹنے کی پابند ہیں الایہ کہ کوئی ضرورت ان کے نکلنے کو چاہتی ہو تو گزشتہ صورت میں اختلاط کو کیوں کر جائز کہا جاسکتا ہے؟

حالانکہ اس دور میں عورتوں کی سرکشی بڑھ چکی ہے اور انھوں نے حیا کی چادر کو اتار دیا ہے۔ بیگانے مردوں کے سامنے اپنی آرائش اور خوبصورتی کو ظاہر کرنا اور ان کے پاس ننگا ہونے اور ان کے خاوندوں اور ان کے سوا جن کے سپرد ان کا معاملہ کیا گیا ہے ان کے اندر دینی حمیت و غیرت کی انتہائی قلت پائی جاتی ہے۔

سنت سے دلائل :

رہے سنت سے دلائل تو ہم دس دلائل کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔

1۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے اپنی مسند کے اندر ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اُم حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور عرض کی : اے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو پسند کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"قَدْ عَلِمْتُ اَنَّكُمْ تَحْبِبْنَ الصَّلَاةَ مَعِيَ وَصَلَاتُكَ فِي يَتِيكَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَجْدِي وَصَلَاتُكَ فِي مَجْدِي خَيْرٌ لَّكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ وَصَلَاتُكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَّكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَجْدِي وَصَلَاتِكَ فِي مَجْدِي خَيْرٌ لَّكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَجْدِي" [3]

"میں بخوبی جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ نماز کو پسند کرتی ہے جبکہ تیرے گھر میں تیری نماز تیرے حجرے میں نماز سے بہتر ہے اور تیرے حجرے کی نماز تیرے گھر (کے صحن) کی نماز سے بہتر ہے اور تیرے گھر (کے صحن) کی نماز تیری قوم کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے اور تیری قوم کی مسجد میں تیری نماز میری مسجد میں نماز سے بہتر ہے۔"

راوی کہتے ہیں کہ اُم حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حکم دیا تو ان کے لیے ان کے گھروں میں سے آخری اور اندھیرے والے گھر کے اندر مسجد بنادی گئی تو اللہ کی قسم وہ فوت ہونے تک اسی میں نماز پڑھتی رہیں۔

ابن خزمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔

"إِنَّ أَحَبَّ صَلَاةٍ لِّلْمَرْأَةِ إِلَى اللَّهِ فِي أَشَدِّ مَكَانٍ فِي بَيْتِهَا ظُلْمَةً" [4]

"اللہ کے ہاں عورت کی سب سے بہتر نماز اس کی انتہائی اندھیرے والی جگہ کی ہے۔"

ان دونوں احادیث کے ہم معنی بہت سی احادیث ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ عورت کی لپٹنے گھر کی نماز مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔

وجہ دلالت : جب عورت کے حق میں مشروع ہے کہ اس کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا حتیٰ کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ادا کرنے سے بھی بہتر ہے تو اس زمانے میں اختلاط (مردوزن) بدرجہ اولیٰ ممنوع قرار دیا جائے گا۔

2- امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہما نے اپنی اپنی سندوں سے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لموں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أُولَئِكَ وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أُولَئِكَ" [5]

مردوں کی ابتدائی صفیں بہتر اور آخری صفیں بری ہیں اور عورتوں کی آخری صفیں اچھی اور ابتدائی بری ہیں۔

امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے روایت کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

وجہ دلالت : یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کی صورت میں مرد نمازیوں سے الگ رہنے کو مشروع قرار دیا ہے۔ پھر ان کی ابتدائی صف کو برا اور آخری کو بہتر بیان کیا ہے یہ اسی لیے ہے کہ لیٹ آنے والے مردوں کے اختلاط اور انھیں دیکھنے سے دور رہیں گی اور ان کی حرکات کو دیکھنے سے ان سے دل لگی کے خطرات سے دور رہیں گی۔ ان کی ابتدائی صف کی مذمت اس لیے بیان فرمائی کہ یہ مذکورہ مقاصد کے برعکس ہے مردوں کی اسی طرح آخری صف کو برا قرار دیا جبکہ مسجد میں ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوں۔ فضیلت کے رہ جانے امام کے نزدیک نہ ہونے اور دل کو مصروف کرنے والی عورتوں کے قریب ہونے کی وجہ سے ہی ہے اور بسا اوقات وہ اس پر عبادت کو خراب اور زینت اور خشوع میں خلل پیدا کر سکتی ہیں چنانچہ جب شارع نے عبادت کی جگہوں میں اختلاط نہ ہونے کے باوجود ان خطرات کا خدشہ ظاہر فرمایا ہے جہاں عورتیں مردوں سے صرف نزدیک ہوتی ہیں تو اختلاط کی صورت میں کیا حال ہوگا؟

3- امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا۔

"إِذَا شَهِدْتَ إِحْدَاكُنِ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمْسُ طِبَاءَ" [6]

"جب تم میں سے کوئی ایک مسجد جائے تو خوشبو نہ لگائے۔"

امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی سندوں سے اپنی سندوں میں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"لَا تَمْسُوا إِيَّاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لِيُفَرِّجَنَّ وَبُيْنَ تَفَلَّاتٍ" [7]

"اللہ کی لونڈیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت رو کو لیکن انھیں گھر کے کام کاج کے عام لباس میں بغیر زیب و زینت کے نکلنا چاہیے۔"

ابن دقیق العید فرماتے ہیں۔

"اس میں مسجد جانے والی کے لیے خوشبو کی حرمت ہے اور اس لیے کہ اس سے مردوں کی خواہش اور شہوت میں تحریک پیدا ہوتی ہے اور کبھی یہ عورت کی شہوت کو تحریک دینے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔"



نیز فرماتے ہیں -

"خوشبو کے حکم میں بچا لباس اور زلیور پہننا جس کا اثر ظاہر ہو اور بن سنور کر قابلِ فخر حالت میں جانا بھی شامل ہے۔"

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

"اسی طرح مردوں سے اختلاط بھی (ممنوع حکم میں) داخل ہے۔"

امام خطابی نے "معالم السنن" میں فرمایا کہ "تقل" بدلو ہے کہا جاتا ہے۔ امراۃ تفلہ اگر اس نے خوشبو نہ لگائی ہو اور "نساء تفلات" ایسی عورتیں جو خوشبو سے عاری ہوں۔

4۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فَنْتَهَ أَضْرَ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" [8]

"میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں پر عورتوں سے زیادہ نقصان دہ ہو۔" اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ و مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔

وجہ دلالت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا وصف یوں بیان کیا کہ وہ مردوں پر فتنہ ہیں لہذا فتنے میں ڈلنے والا اور پڑنے والا کیسے اٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ ناجائز ہے۔

5۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوعٌ خَصْرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَجْعِمٌ فِينَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ؟ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فَنَاءٍ بَنَى إِسْرَائِيلَ، كَانَتْ فِي النِّسَاءِ" [9]

"یقیناً دنیا سرسبز میٹھی ہے اور اللہ تمہیں اس میں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ لہذا دنیا اور عورتوں سے بچ جاؤ یقیناً بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کے حوالے سے تھا (اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے)

وجہ دلالت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بچنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم وجوبی ہے اس حکم پر اختلاط کے ہوتے ہوئے پابندی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ لہذا اختلاط بھی جائز نہیں ہو سکتا۔

6۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن اور بخاری نے "الکئی" میں اپنی اپنی سندوں سے بیان کیا ہے کہ حمزہ بن ابی اسید انصاری جو اپنے والد گرامی سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا اور آپ مسجد سے باہر تھے تو رستے میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اسْتَأْخِزْنَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْتَقِقْنَ الطَّرِيقَ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ" [10]

"پیچھے ہٹ جاؤ یقیناً تمہارے لیے رستے کے درمیان چلنا جائز نہیں رستے کے کناروں کو لازم پکڑو تو عورت اس قدر دیوار سے مل جاتی کہ اس کا لباس دیوار سے رگڑ کھانے کی وجہ سے دیوار کے ساتھ چمٹ جاتا۔"

یہ الفاظ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں ابن الاثیر نے "النهاية في غريب الحديث" میں "تحققن الطريق" کا معنی رستے کے نیچوں بچ چلنا لکھا ہے۔

وجہ دلالت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انھیں رستے میں اختلاط کرنے سے منع کیا کیونکہ وہ فتنے تک پہنچانے کا ذریعہ ہے لہذا اس کے علاوہ میں اختلاط کے جائز ہونے کے بارے میں بات کیسے کہی جاسکتی ہے؟

7۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ طرابلسی وغیرہ نے اپنی سنن میں نافع سے بیان کیا ہے اور انھوں نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد تعمیر کرائی تو عورتوں کے لیے الگ دروازہ بنایا اور فرمایا:

"الْبَيْتُ مِنْ هَذَا الْبَابِ مِنَ الرِّجَالِ أَحَدًا" [11]

"اس دروازے سے کوئی آدمی داخل نہ ہو۔"

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ کبیر میں عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی ہے اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَا تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ" [12]

"عورتوں کے دروازے سے مسجد میں داخل نہ ہوا کرو۔"

وجہ دلالت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کے دروازوں سے داخل ہونے اور نکلنے کے بارے میں مردوں اور عورتوں میں اختلاط سے منع کیا ہے تاکہ اختلاط کا سد باب کیا جائے لہذا جب اس حالت میں اختلاط سے روکا گیا ہے تو اس کے علاوہ میں تو بالاولیٰ منع ہوگا۔

8۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے سلام پھیرتے تو سلام کے مکمل ہونے کے وقت عورتیں کھڑی ہو جاتیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ تھوڑی دیر ٹھہرتے اسی کی دوسری روایت میں ہے۔

"آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹنے سے پہلے عورتیں فارغ ہو کر اپنے گھروں میں داخل ہو جاتیں۔"

تیسری روایت میں ہے۔

"عورتیں جب فرضی نماز سے سلام پھیرتیں تو کھڑی ہو جاتیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز مرد حضرات جس قدر اللہ چاہتا ٹھہرتے تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو مرد حضرات پھر کھڑے ہو جاتے۔"

وجہ دلالت: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل اور عملی طور پر اختلاط سے منع کر دیا اور یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ اس جگہ کے علاوہ بھی اختلاط منع ہے۔

9۔ امام طبرانی نے معجم کبیر میں معقل بن یسار سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَإِنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِحِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ" [13]

"البتہ تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی مار دی جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو پھوٹے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔"

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد میں کہا ہے کہ اس کے راوی صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے راوی ہیں اور امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ترغیب و ترہیب میں اس کے راویوں کو ثقہ کہا ہے۔

10۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث سے بھی بیان کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

"لَا يَزِمُ رَجُلٌ رَجُلًا بِطَلَبٍ أَوْ عَمَلَةٍ بِخَيْرٍ مِنْ أَنْ يَزِمَ مِنْكَ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَكَ" [14]

"کوئی آدمی مٹی اور گندگی سے لت پت سور سے ٹکرا جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ اس کا کندھا کسی ایسی عورت کے کندھے سے ٹکرائے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔"

دونوں حدیثوں سے وجہ دلالت : آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محرم مرد کو پردے یا بغیر پردے کے کسی عورت کے چھونے کو ناجائز قرار نہیں دیا کیونکہ اس میں برا نتیجہ ہے اور اختلاط بھی اسی علت کی وجہ سے ناجائز قرار دیا گیا ہے جو مذکورہ تحریر میں غور و فکر کرے گا تو اس کے لیے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کہنا کہ اختلاط فتنے تک لے جانے والا نہیں غلط ہے اور صرف کچھ لوگوں کا محض خیال ہے۔

ورنہ درحقیقت یہ فقہ تک پہنچانے والا ہے اسی لیے شارع نے اسے ناجائز کیا صرف خرابی کے مادے کو کاٹتے ہوئے لیکن اس میں وہ استثنائی حالت داخل نہیں ہے جس کی ضرورت اور حاجت شدیدہ متقاضی ہو۔ ایسی صورت عبادگاہوں میں پیش آتی ہے

جیسا کہ حرم کی اور حرم مدنی میں لہذا ہم اللہ سے گمراہ مسلمانوں کی ہدایت اور ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافے اور حکمرانوں کو اچھے کام کرنے اور برے چھوڑنے کی نیز بیوقوفوں کے ہاتھوں کو پکڑنے کی توفیق کا سوال کرتے ہیں انہ سمیع قریب" (سعودی فتویٰ کمیٹی)

[1]۔ حسن سنن ابی داؤد رقم الحدیث (2149)

[2]۔ صحیح مسلم رقم الحدیث (2657)

[3]۔ حسن مسند احمد (371/6)

[4]۔ حسن صحیح ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ (95/3)

[5]۔ صحیح مسلم رقم الحدیث (440)

[6]۔ صحیح مسلم رقم الحدیث (443)

[7]۔ صحیح سنن ابی داؤد رقم الحدیث (565)

[8]۔ صحیح البخاری رقم الحدیث (4808) صحیح مسلم رقم الحدیث (2740)

[9]۔ صحیح مسلم رقم الحدیث (2742)

[10]۔ حسن صحیح الجامع رقم الحدیث (929)

[11]۔ مسند الطیالسی رقم الحدیث (1829)

[12]۔ ضعیف موقوف سنن ابی داؤد رقم الحدیث (464)

[13]۔ صحیح الجامع رقم الحدیث (5045)

[14]۔ ضعیف جدا ضعیف الترغیب والترہیب (2/2)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 673

محدث فتویٰ